



سوال

(156) غروب آفتاب سے نصف گھنٹہ پہلے جہاز نے پرواز شروع کی

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

رمضان میں ریاض ایئر پورٹ سے غروب آفتاب سے قریباً نصف گھنٹہ پہلے ہوائی جہاز ان شاء اللہ پرواز شروع کرے گا، ہم ابھی سعودیہ کی فضا ہی میں ہوں گے جب اذان مغرب شروع ہو جائے گی تو کیا ہم اس وقت روزہ افطار کر دیں؟ اور اگر ہم ابھی تک سورج کو دیکھ رہے ہوں اور اکثر و بیشتر صورتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے تو کیا ہم ابھی حالت روزہ ہی میں رہیں اور اپنے ملک جا کر افطار کریں یا محض سعودیہ کی اذان کے مطابق افطار کریں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جب غروب آفتاب سے قبل طیارہ مغرب کی طرف پرواز شروع کر دے تو آپ کو روزہ ہی کی حالت میں رہنا ہوگا حتیٰ کہ فضا میں سورج غروب ہو جائے یا آپ کسی ایسے شہر میں اتر پڑیں جہاں سورج غروب ہو چکا ہو کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ "جب رات ادھر سے آجائے اور دن ادھر سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار نے روزہ افطار کر دیا۔" (متفق علیہ)

حدامہ عنہی واللہ اعلم بالصواب

مقالات و فتاویٰ

ص 282

محدث فتویٰ